



SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN

PRESS RELEASE

For immediate release

May 22, 2025

SECP alerts public against fraudulent loan schemes promoted via Social Media

Islamabad, May 22, 2025: The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) continues vigilant monitoring of social media platforms to safeguard the public from falling victim to illegal and exploitative personal loan schemes.

Following the successful crackdown on 141 unauthorized digital lending apps through the coordinated efforts of relevant stakeholders, operators behind such schemes have now resorted to alternative channels, primarily social media to continue their fraudulent activities.

The SECP has observed sponsored advertisements on platforms such as Facebook, falsely offering quick, interest-free loans with minimal requirements. The names of reputable organizations are being fraudulently cited in these promotions to falsely project legitimacy and gain public trust. These advertisements are being used to lure unsuspecting individuals into paying upfront charges under the guise of processing, registration, insurance, or account verification fees, or into sharing sensitive personal information. Once the payment or information is obtained, the scammers disappear without disbursing any loan.

The SECP is actively reporting such platforms to Federal Investigation Agency (FIA) and the Pakistan Telecommunication Authority (PTA) for action against those responsible and to ensure the prompt removal of such fraudulent advertisements from social media platforms.

The general public is strongly advised to remain cautious, verify the authenticity of any financial offer or lending platform, and refrain from sharing personal or financial information with unverified sources. The General Public is informed that list of SECP licensed companies and approved personal loan apps is available on SECP website for convenience of the general public.

ایس ای سی پی نے عوام کو سوشل میڈیا پر جاری دھوکہ دہی پر مبنی قرض اسکیموں سے خبردار کیا ہے۔

اسلام آباد، 22 مئی: سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سوشل میڈیا پر نظر رکھے ہوئے ہے تاکہ عوام کو غیر قانونی اور دھوکہ دہی پر مبنی قرض اسکیموں سے بچایا جا سکے۔

141 جعلی ڈیجیٹل قرض ایپس کے خلاف کامیاب کارروائی کے بعد، ان اسکیموں کے پیچھے موجود افراد نے اب اپنے دھوکہ دہی کے ہتھکنڈے جاری رکھنے کے لیے سوشل میڈیا جیسے متبادل ذرائع کا سہارا لینا شروع کر دیا ہے۔ ایس ای سی پی نے دیکھا ہے کہ فیس بک جیسے پلیٹ فارمز پر جھوٹے اشتہارات چلائے جا رہے ہیں، جن میں فوری، بغیر سود کے قرضے بہت آسان شرائط پر دیے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ان اشتہارات میں مشہور اداروں کے نام غلط طریقے سے استعمال کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کا اعتماد حاصل کیا جا سکے۔ یہ اشتہارات عام لوگوں کو دھوکے سے رجسٹریشن، انشورنس، یا اکاؤنٹ چیک کرنے کے نام پر ایڈوانس فیس دینے یا ذاتی معلومات شیئر کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ جب لوگ پیسے یا معلومات دے دیتے ہیں تو فراڈ کرنے والے غائب ہو جاتے ہیں اور کوئی قرض نہیں دیتے۔

ایس ای سی پی ان دھوکہ دہی والے پلیٹ فارمز کی شکایت ایف آئی اے اور پی ٹی اے کو کر رہا ہے تاکہ ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے اور سوشل میڈیا سے ایسے جعلی اشتہارات جلد ہٹائے جا سکیں۔

عوام الناس کو سختی سے مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ہوشیار رہیں، کسی بھی مالی پیشکش یا قرض دینے والے پلیٹ فارم کی درستگی کی تصدیق کریں، اور غیر تصدیق شدہ ذرائع کے ساتھ اپنی ذاتی یا مالی معلومات شیئر نہ کریں۔ عوام کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ ایس ای سی پی سے لائسنس یافتہ کمپنیوں اور منظور شدہ پرسنل لون ایپس کی فہرست ایس ای سی پی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے، تاکہ عوام آسانی سے معلومات حاصل کر سکیں۔